



## سوال

(65) کتاب التقلید والاجتهاد

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

کتاب التقلید والاجتهاد

بعض عالم تقلید کو فرض بتاتے ہیں۔ اور آیت **فاسئلوا اہل الذکر** اور آیت **یا ایہنا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم** میں اہل ذکر اور اولی الامر سے آئمہ مجتہدین مراد لیتے ہیں کیا ان کی یہ بات صحیح ہے۔

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بعض علماء کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ان دونوں آیتوں سے تقلید کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اہل ذکر اور اولی الامر سے آئمہ مراد نہیں ہیں۔ بلکہ پہلی آیت میں اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں۔ اور اس آیت کے مخاطب کفار مکہ ہیں۔ جو رسول اللہ ﷺ کی رسالت سے انکار کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ یہ آدمی محمد رسول اللہ ﷺ تو آدمی ہیں۔ پیغمبر کیونکر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کفار کو جواب دیا کہ پہلے بھی جتنے پیغمبر ہوئے۔ سب آدمی تھے فرشتہ نہ تھے۔ اگر تم کو یہ بات معلوم نہ ہو تو یاد والوں یعنی اہل کتاب سے دریافت کر لو۔ پوری آیت اس طرح پر ہے۔۔۔ قرآن 3

1- اہل ذکر سے بوجھ لو۔ 2- اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو۔ 3 ترجمہ۔ ہم نے آپ سے پہلے آدمی ہی رسول بنا کر بھیجے ہیں۔ اگر تم کو اس بات کا علم نہیں تو اہل ذکر سے بوجھ لو۔

(سورۃ نحل) شاہ ولی اللہ صاحب اس آیت کا ترجمہ اس طرح لکھتے ہیں۔

ونہ 1 فرستادہ ایم پیش از تو مگر مردانے راکہ وحی می فرستادیم یسوسے ایشان پس سوال کینسند از اہل کتاب اگر نمی دانید اور اس آیت کے فائدہ میں لکھتے ہیں۔ کے یعنی پیغمبران سابق آدمی بودند فرشتہ نہ بودند انتہی اور شاہ عبدالقادر صاحب اس آیت کا ترجمہ اس طرح لکھتے ہیں۔ اور تجھ سے پہلے بھی ہم نے یہی مرد بھیجے تھے کہ حکم بھیجتے ان کی طرف سو پوچھو یاد رکھنے والوں سے اگر تم کو معلوم نہیں۔ اور شاہ صاحب موصوف اس کے فائدے میں لکھتے ہیں۔ یاد رکھنے والے یعنی اہل کتاب کہ لگے احوال جاننتے تھے۔ الحاصل بعض علماء کا اہل ذکر سے آئمہ مراد لینا اور اس آیت سے تقلید کو فرض بتانا نہایت ہی غلط اور وہی بات ہے۔ اور دوسری آیت میں اولوا الامر کے معنی حکومت والے ہیں۔ اور یہی معنی مراد بھی



ہیں۔ یعنی بادشاہ اسلام اور حاکم جو صاحب حکومت اور با اختیار ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب اس آیت کا ترجمہ اس طرح لکھتے ہیں۔ اے مومنان فرمانبرداری کیند خدا را و فرمانبرداری کنید پیغامبر را و فرمانروایان رازاز جنس شما اور شاہ عبدالقادر صاحب اس طرح لکھتے ہیں۔ اے ایمان والو! حکم مانو اللہ

1۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحب زادے شاہ رفیع الدین نے اردو میں یہ ترجمہ لکھا ہے۔ اور نہیں بھیجے تجھ سے پہلے ہم نے مگر مرد کہ وہی بھیجتے تھے ہر طرف انکی پس سوال کرو یاد والوں سے اگر ہو تم نہیں جانتے یعنی سابق پیغمبر آدمی تھے۔ فرشتے نہ تھے۔

اور اس کے رسول ﷺ کا اور ان کا جو تم میں سے اختیار والے ہیں۔ اور فائدہ میں لکھتے ہیں۔ اختیار والے بادشاہ اور قاضی اور جو کسی کام پر مقرر ہوں۔ اس کے حکم پر چلنا ضرور ہے۔ الخ

پس بعض علماء کا اس دوسری آیت میں اولی الامر سے آئمہ مجتہدین مراد لینا اور اس سے تقلید آئمہ مجتہدین کی فرض بنانا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ آئمہ مجتہدین میں سے کوئی بھی صاحب حکومت نہیں تھے۔ اور اگر بالفرض ان میں کوئی صاحب حکومت یا با اختیار ہوتا بھی تو بھی اس آیت سے اس کی تقلید کرنے کا ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اس آیت سے اس کے زیر حکومت رعایا پر اس کے حکم کا ماننا فرض اور ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اس کے حاکم ہونے کی وجہ سے نہ کے اس کے امام دین ہونے کے سبب سے اور حاکم کا حکم ماننا اور بات ہے۔ اور مسائل دینیہ میں اس کی تقلید کرنا اور بات۔ دیکھو مثلاً سلطان روم کی تمام رعایا جو ان کے زیر حکومت ہیں۔ ان کے حکم ماننے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اور ملنے بھی ہیں۔ مگر نہ ان کی تقلید کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اور نہ ان کے مقلد ہیں۔ قصہ مختصر تقلید نہ تو کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور نہ کسی حدیث سے اور نہ کسی امام نے اپنی تقلید کرنے کی اجازت دی ہے۔ تقلید کے بطلان میں سے بہت اچھے اچھے رسالے تصنیف ہو چکے ہیں۔ اس کے بطلان کی وجہ مفصل طور پر دیکھنا ہو تو ان رسالوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کتبہ علی محمد عقی عنہ (سید محمد زبیر حسین دیلوی)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 11 ص 207-209

محدث فتویٰ